

اللَّهُ كَنَمْ سَمَوَاتُهُ شَرُوعٌ جُونَهَا يَتْمِيْمٌ مَهْرَبَانِ رَحْمٌ وَالا اَسْمَىْمُ مَصْنَاعَهَا آسِيَّمُ (اوْرَتْمُ رَوْعَهُ بَيْنَ

**إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَلَّيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَادِبٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ**

جب ہو لے گی وہ ہونے والی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہو گی کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی

**إِذَا أَرْجَتِ الْأَرْضَ رَجَّاً وَبَسَّتِ الْجَيَالُ بَسَّاً فَكَانَتْ هَبَاءً**

جب زمین کا نپے گی تم ترا کر اور پھاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں

**مَجِيدَنَا وَكَنْتُمْ أَرْوَاحًا شَلَّهُ طَفَّا صَاحِبُ الْيَمَنَةَ هُوَ أَصْاحِبُ**

غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے اور تم تین تم کے ہو جاؤ گے تو دہنی طرف والے کیسے دہنی

**الْيَمِنَةُ وَأَصْحَابُ الْمَشْمَةِ هَمَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ وَالسِّيقُونَ**

طرف والے اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے

**السِّيقُونَ ۝ أَوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ فِي جَلْتِ النَّعِيْدِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ**

وہ توسیقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں جیسے باغوں میں اگلوں میں سے

**أَرَوَّلِينَ ۝ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأُخْرِيْنَ ۝ عَلَى سُرِّهِ مَوْضُوَّةٍ ۝**

ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاوے تھوڑے پر ہوں گے

**مُتَكَبِّرِيْنَ عَلَيْهِمَا مُتَقْبِلِيْنَ ۝ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ وَلُدَانٌ فُخَلَّدُوْنَ ۝**

ان پر تکبیر لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لئے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے

**بَا كُوَّاپٍ وَّأَبَارِيْقَ هَوَّكَائِسٌ قِنْ قَعِيْنِ ۝ لَا يَصِدَّ عُوْنَ عَنْهُمَا**

کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کر اس سے نہ انہیں درد سر ہو

**وَلَا يُنْزَفُونَ ۝ وَفَا كَرْفَةٌ مَمَّا يَتَحَبَّرُونَ ۝ وَلَحِ حَطِيرٌ مَمَّا**

اور نہ ہوش میں فرق آئے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو

**يَشَتَّهُوْنَ ۝ وَحُوْرٌ عَيْنٌ ۝ كَأَمْثَالِ اللَّوْلَوِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءٌ**

چاہیں اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے متین صدھے ان

**بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِيْمًا ۝ إِلَّا قِيْلَا**

کے اعمال کا اس میں نہ نہیں گے کوئی بیکار بات نہ گنہگاری ہاں یہ کہنا ہو گا

**سَلَمًا سَلَمًا ۝ وَأَصْحَابُ الْيَمِنِ هَمَا أَصْحَابُ الْيَمِنِ ۝ فِي سِدْرٍ**

سلام سلام اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے بے کانتوں کی

**لَخْضُودٌ ۝ وَطَلْحٌ مَنْضُودٌ ۝ وَظِلٌّ قَمْدَادٌ ۝ وَقَاءٌ مَسْكُوبٌ ۝**

بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سامنے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں

**وَفَا كَرْفَةٌ كَثِيرَةٌ ۝ لَا مَنْطُوعَةٌ ۝ وَلَا مَسْتَوَعَةٌ ۝ وَفَرِشٌ فَرْفُوعَةٌ ۝**

اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور بلند پچھونوں میں

**إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرَبًا أَتَرَابًا ۝ لَا أَصْحَابٌ**

یہک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پیاریاں انہیں پیارا دلاتیاں ایک گمراہ والیاں داہنی طرف

**الْيَعْنَىٰ تَلَهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَتَلَهُ مِنَ الْآخِرِينَ ۝ وَأَصْحَابُ**

والاول کے لئے الگوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ اور باسیں طرف والے کیے باسیں طرف والے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھویں کی

**الشَّمَاءٌ لَمَّا أَصْحَابُ الشَّمَاءٍ ۝ فِي سَمَوَاتِ حَمِيمٍ ۝ وَظِلٌّ قِنْ**

چھاؤں میں جو نہ خندی نہ عزت کی بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے **وَكَانُوا يُعَرِّفُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ۝ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ**

اور اس بڑے گناہ کی ہٹ (ضد) رکھتے تھے کیا جب **عَنْتَنَا وَكُلَّتَنَا تَرَابًا وَعَظَامًا إِنَّا لَمَبِعُوتُونَ ۝ أَوْ أَبَدَنَا الْأَوَّلَوْنَ ۝**

ہم مر جائیں اور بڑیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے انگلے باپ دادا بھی **قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ هَذِهِ الْمِيقَاتِ**

تم فرماؤ بے شک سب انگلے اور پچھلے ضرور اٹھئے کئے جائیں گے ایک جانے ہوئے **يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝ ثُمَّ أَنْكُمْ أَيْمَانَ الصَّالِوْنَ الْمُكَذِّبُونَ لَا إِلَهَ كُوْنَ**

دن کی میعاد پر پھر بے شک تم اے گراہو جھلانے والو ضرور تھوہر کے **إِنْ شَجَرٌ قَنْ رَقْوِمٌ ۝ فَمَا لَهُنَّ فَهُنَّ الْبُطُونُ ۝ فَشَرِبُونَ عَلَيْكُمْ**

چیز میں سے کھاؤ گے پھر اس سے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھوتا پانی **مِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْمِيمِ ۝ هَذَا إِنْزَلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝**

پوچھ کے پھرایا پوچھے سخت پیاس اونٹ پیسیں یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے **نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصْدِقُونَ ۝ أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَهْتَوْنَ ۝ إِنَّمَا**

دن ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گرتے ہو کیا تم اس کا

آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم نے تم میں مرنما شہرایا اور ہم **نَحْنُ بِهَسْبُوْرِقِينَ ۝ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشَكُمْ فِي مَا**

اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی

لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَكُونُونَ<sup>٤١</sup>

تمہیں خبر نہیں اور بے شک تم جان پچے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے

أَفَرَءَيْتُمْ قَاتِلَهُ شُرُونَ<sup>٤٢</sup> إِنَّهُ تَزَرَّعُونَ أَمْ تَحْنُنُ الْرِّجُونَ<sup>٤٣</sup> كُوٰ

تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی صحیت بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم

نَشَاءٌ بَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْنَاهُ تَفَكَّرُونَ إِنَّا لِمَعْرُوفُونَ<sup>٤٤</sup> بَلْ

چاہیں تو اسے روندن (پا مال) کر دیں پھر تم باشیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چنی پڑی بلکہ

تَحْنُنُ مَحْرُومُونَ<sup>٤٥</sup> أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرَّبُونَ<sup>٤٦</sup> إِنَّهُ

ہم بے نصیب رہے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْأَنْزَنَ أَمْ تَحْنُنُ الْمَنْزُلُونَ<sup>٤٧</sup> لَوْنَشَاءٌ بَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا

اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں

فَلَوْلَا تَشَكُّرُونَ<sup>٤٨</sup> أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ<sup>٤٩</sup> إِنَّهُ أَنْشَأْنَاهُ

پھر کیوں نہیں شکر کرتے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ

شَجَرَ تَهَا أَمْ تَحْنُنُ الْمُتَشَهِّدُونَ<sup>٥٠</sup> تَحْنُنٌ بَجَعَلْنَاهُ مَآتِدًا كَرَّةً وَمَثَاعًا

پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں

لِلَّهِ تَعْوِيْنَ<sup>٥١</sup> فَسَيِّرْ بِإِسْحَارِكَ الْعَظِيْمِ<sup>٥٢</sup> فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقَعِ التَّجْوِيْمِ<sup>٥٣</sup>

مسافروں کا فائدہ تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی تو مجھے شرم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں

وَإِنَّهُ لَقَسْوٌ لَوْلَا تَعْلَمُونَ عَظِيْمًا<sup>٥٤</sup> إِنَّهُ لِقْرَآنٌ كَرِيْجٌ<sup>٥٥</sup> فِي كِتَابٍ

اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشته

مَكْتُوْنَ<sup>٥٦</sup> لَدَيْسَةَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ<sup>٥٧</sup> تَنْزِيلٌ قِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>٥٨</sup>

میں اسے نہ چھوئیں مگر باوضو اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا

أَفَمِنْهَا الْحَدِيْثُ أَنْتُمْ مُمْدَهْنُونَ<sup>٥٩</sup> وَتَجْعَلُونَ رِثَاقَكُمْ أَنْكُمْ

تو کیا اس بات میں تم مستی کرتے ہو؟ اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ

مَنْكِرٌ بُوْنَ<sup>٦٠</sup> فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ<sup>٦١</sup> وَأَنْتُمْ حِيْنَيْدَ تَنْظَرُونَ<sup>٦٢</sup>

جھلاتے ہو پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ فَنَكُونُ وَلَكُنْ لَا تَبْصِرُونَ ۝ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْنَ  
 اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمھیں ناہ نہیں تو کیوں نہ ہوا اگر تمھیں بدلا  
 مَدِينَيْنَ ۝ تَرْجُعُهُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ فَإِنَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ  
 ملنا نہیں کہ اُسے لوٹا لاتے اگر تم پچھے ہو پھر وہ مرنے والا اگر

الْمُقْرَرَ بِيْنَ ۝ فَرَوْمٌ وَّ رَجِّاَنٌ ۝ وَ جَنَّتُ لَعِيْدٍ ۝ وَ أَقَانُ كَانَ مِنْ

مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باعث اور اگر وہی طرف  
 أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ قَسَلَهُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ وَ أَقَانُ كَانَ

والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہو وہی طرف والوں سے اور اگر جھلانے

هُنَ الْمُكَذِّبُونَ الظَّالِمُونَ ۝ فَنَزَلُ ۝ فِنْ حَمِيمٍ ۝ وَ تَصْلِيهُ بَحِيمٍ ۝

والے گراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھوتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنانا

رَأَتَ هَذَا الْهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسِّرْهُ بِاسْحَرِ رَبِّ الْعَظِيمِ ۝

یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو